



### سٹی ہر جمعرات اور جمعہ کے دن اپوائنٹمنٹ کے ذریعے شادی کے لائسنس جاری کر رہا ہے

برامپٹن، آن (27 جولائی 2020) – آج سے سٹی آف برامپٹن اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ہر جمعرات اور جمعہ کے دن شادی کے لائسنس جاری کرنا شروع کرے گا۔ سابقہ طور پر، شادی کے لائسنس صرف فوری یا ہمدردی کی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے تھے۔

شادی کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے، رہائشیوں کو درج ذیل مراحل پورے کرنے ہوں گے:

1. اپوائنٹمنٹ [یہاں](#) پر طے کریں۔
2. [شادی کے لائسنس کی درخواست](#) مکمل کریں، اسے پرنٹ کریں اور یقینی بنائیں کہ دونوں درخواست دہندگان درخواست پر دستخط کریں (ڈیجیٹل دستخط قابل قبول نہیں)۔ صرف ایک درخواست گزار اپوائنٹمنٹ پر آ سکتا ہے۔
3. مکمل شدہ اور دستخط شدہ شادی کے لائسنس کی درخواست کو تمام متعلقہ دستاویزات اور طلاق کی دستاویزات (اگر قابل اطلاق ہو تو) طے شدہ اپوائنٹمنٹ پر لائیں۔

رہائشی تمام تقاضوں کے متعلق جاننے کے لیے سٹی کی [ویب سائٹ](#) ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی کا لائسنس مطلوبہ دستاویزات میں سے کسی کے نہ ہونے کی صورت میں جاری نہیں کیا جا سکتا۔ معلومات کئی زبانوں میں دستیاب ہیں۔

اس وقت محدود اپوائنٹمنٹس دستیاب ہیں اور فوراً پہنچ کر اپوائنٹمنٹس دستیاب نہیں ہو سکتیں۔ موجودہ طور پر سول میرج کی ہر قسم کی تقریبات کی تنسیخ برقرار ہے۔

کووڈ-19 کی عالمی وباء میں شہریوں اور عملے کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام سٹی کے تمام عوامی کاؤنٹرز بند ہیں۔

رہائشیوں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ سٹی کے کووڈ-19 کے مینڈیٹری فیس کورنگ ہائی لاء کے تحت، ان کے لیے سٹی ہال آتے ہوئے نان میڈیکل پہننا یا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، جیسا کہ برامپٹن میں تمام اندرونی عوامی جگہوں پر لازمی ہے۔

مزید معلومات اور اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)